قصیدہ بُردہ



2D-1
38
12251

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِس مِلّ لَا ہِرّ رَحْ مَا نِرّ رَ حِیٓ مْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ

اَلّ لَا هُمّ مَ صَلّ لِ عَ لَا سَیّ یِ دِ نَا مُ حَمّ مَ دِ نِنّ نَ بِیّ یِلْ

الْاُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اُمّ مِیّ یِ وَ عَ لَآ آ لِ هِیْ وَ اَصْ حَا بِ هِیْ وَ بَا رِ کْ وَ سَلّ لِمْ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِى الْخَلْقِ مِنْ عَدَمِ

اَلْ حَمْ دُ لِلّ لَا هِ مُنْ شِلْ خَلْ قِ مِنْ عَ دَ مِیْ

ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِى الْقِدَمِ

ثُمّ مَصّ صَ لَا تُ عَ لَلْ مُخْ تَا رِ فِلْ قِ دَ مِیْ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا

مَوْ لَا یَ صَلّ لِ وَ سَلّ لِمْ دَآ ءِ مَنْ اَبَ دَا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

عَ لَا حَ بِیْ بِ کَ خَیْ رِلْ خَلْ قِ کُلّ لِ هِ مِیْ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قصیدہ بُردہ

امام شرف الدّین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ

اُردو اِملا و اصوات عربی

قاری محمّد مُشتاق صابری

بانی چالیس روزہ قاری کلاس

جامعہ اسلامیہ لاہور
رقم المسلسل ——

اِدارہ مُعارف نعمانیہ لاہور

وضاحت

قصیدہ بُردہ شریف کے اشعار کی تعداد ۱۶۰ ہے۔ علّامہ یُوسف بن اسماعیل النبہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مجموعہ "المجموعۃ النبہانیہ فی المدائح النبویہ" میں یہی تعداد بتائی ہے۔ علّامہ پرفیسر نُور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح میں ایک شعر کا اضافہ ہے۔ اس طرح یہ ۱۶۱ ابیات ہُوئے۔ چار مزید ابیات اس میں شامل کر دیئے گئے جو اصل سے متعلق نہیں ہیں، صرف اضافی ہیں۔ یہ قصیدہ علّامہ نُور بخش توکّلی کی شرح کے مطابق ہے۔ اس کے پڑھنے کی ترکیب اور اِختتامیہ اُنہی کا ہے۔ زائد ابیات شامل قصیدہ ہذا تو ہیں لیکن قارئین اگر علامہ نُور بخش توکّلی کی ترکیب کے مطابق پڑھنا چاہیں تو ★ ستارہ والے اشعار سے صرفِ نظر کریں اور پڑھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اضافی اشعار پر ★ ستارہ کا نشان دے دیا گیا ہے۔

ربیع النور ۱۴۱۹ھ
۱۹۹۸ء

ناشر: ادارہ معارفِ نعمانیّہ
۳۲۳۔ شاد باغ، لاہور۔ ۵۴۹۰۰

قصیدہ بردہ کے پڑھنے کی ترکیب

اس قصیدے کے پڑھنے کی ترکیب جو مجھے شیخنا العلامہ مولوی حاجی مشتاق احمد چشتی صابری انبہٹوی نے ارشاد فرمائی یوں ہے کہ جو طالب اس کا ورد رکھنا چاہے وہ تمام قصیدہ روزانہ وقت معیّن پر مع اعتصام و اختتام کے پڑھے۔ اگر اعتصام و اختتام نہ پڑھے صرف ابیات کا پڑھنا ہی کافی ہے اگر روزانہ سارا قصیدہ نہ پڑھ سکے تو ہر روز ہفت منزل میں سے ایک منزل مع ابیات قبلیہ و بعدیہ پڑھ لیا کرے۔ کتاب میں منزل کے نشان بتا دیئے گئے ہیں یہ منزلیں بزرگانِ طریقت نے طالبوں کی سہولت کے لیے مقرر کر دی ہیں تاکہ جمعہ سے شروع ہو کر پنجشنبہ کو ختم ہو جائے۔ اعتصام اس طرح ہے کہ یہ درود شریف گیارہ بار پڑھے : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۣالنَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَ اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ اس درود شریف کے بعد آیت الکرسی و سورہ اَلَمْ نَشْرَح و سورہ اِنَّآ اَعْطَيْنَا ہر ایک گیارہ گیارہ بار اور آیت لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ ایک بار پڑھے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر گیارہ بار اَلْمُسْتَغَاثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ کہے۔ بعد ازاں یہ درود شریف تین بار پڑھے : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ الْعٰلَمِيْنَ حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوٰاتِكَ وَ اَكْمَلَ تَحِيَّاتِكَ بِعَدَدِ كَلِمٰتِكَ التَّآمَّاتِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ پھر یہ دو بیتیں ایک بار پڑھ کر قصیدہ شریف شروع کرے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِئِ الْخَلْقِ مِنْ عَدَمٖ
ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الْقِدَمٖ
مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمٖ

اختتام کی ترکیب قصیدے کے آخر میں درج ہے

وظیفہ آغاز جمعۃ المبارک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْ مِلّ لَا هِرّ رَحْ مَا نِرّ رَ حِیٓ مْ ،

اَمِنْ تَذَكُّرِ جِیْرَانٍ بِذِیْ سَلَمٍ

اَ مِنْ تَ ذَكّ كُ رِ جِیْ رَانِمْ بِ ذِیْ سَ لَ مِیْ

مَزَجْتَ دَمْعًا جَرٰی مِنْ مُّقْلَةٍ بِدَمٍ

مَ زَجْ تَ دَمْ عَنْ جَ رَا مِمّ مُقْ لَ تِمْ بِ دَ مِیْ

اَمْ هَبَّتِ الرِّیْحُ مِنْ تِلْقَآءِ كَاظِمَةٍ

اَمْ هَبّ بَ تِرّ رِیْ حُ مِنْ تِلْ قَآ ءِ كَا ظِ مَ تِنْ

وَاَوْمَضَ الْبَرْقُ فِی الظَّلْمَآءِ مِنْ اِضَمٍ

وَ اَوْ مَ ضَلْ بَرْ قُ فِظّ ظَلْ مَآ ءِ مِنْ اِ ضَ مِیْ

فَمَا لِعَیْنَیْكَ اِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا

فَ مَا لِ عَیْ نَیْ كَ اِنْ قُلْ تَكْ فُ فَا هَ مَ تَا

وَمَا لِقَلْبِكَ اِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ یَهِمٖ

وَ مَا لِ قَلْ بِ كَ اِنْ قُلْ تَسْ تَ فِقْ یَ هِ مِیْ

اَيَحْسَبُ الصَّبُّ اَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ

اَ يَحْ سَ بُصّْ صَبّْ بُ اَنّْ نَلْ حُبّْ بَ مُنْ كَ تِ مُنْ

مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِّنْهُ وَمُضْطَرِمِ

مَا بَيْ نَ مُنْ سَ جِ مِمّْ مِنْ هُ وَ مُضْ طَ رِ مِيْ

لَوْلَا الْهَوٰے لَمْ تُرِقْ دَمْعًا عَلٰى طَلَلٍ

لَوْ لَلْ هَ وَا لَمْ تُ رِقْ دَمْ عَنْ عَ لَا طَ لَ لِنْ

وَّلَا اَرِقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلَمِ

وَ لَآ اَ رِقْ تَ لِ ذِكْ رِلْ بَا نِ وَلْ عَ لَ مِيْ

فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ

فَ كَيْ فَ تُنْ كِ رُ حُبّْ بَمْ بَعْ دَ مَا شَ هِ دَتْ

بِهٖ عَلَيْكَ عُدُوْلُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ

بِ هِيْ عَ لَيْ كَ عُ دُوْ لُدّْ دَمْ عِ وَسّْ سَ قَ مِيْ

وَاَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَّضَنًى

وَ اَثْ بَ تَلْ وَجْ دُ خَطّْ طَيْ عَبْ رَ تِنْ وّْ وَ ضَ نَا

مِّثْلَ الْبَهَارِ عَلٰى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ

مِثْ لَلْ بَ هَا رِ عَ لَا خَدّْ دَيْ كَ وَلْ عَ نَ مِيْ

نَعَمْ سَرٰى طَيْفُ مَنْ اَهْوٰى فَاَرَّقَنِىْ
نَ عَمْ سَ رَا طَیْ فُ مَنْ اَهْ وَا فَ اَرّْ رَ قَ نِیْ

وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَّاتِ بِالْاَلَمِ
وَلْ حُبّْ بُ يَعْ تَ رِضُلّْ لَذّْ ذَا تِ بِلْ اَ لَ مِیْ

يَا لَآئِمِیْ فِی الْهَوَی الْعُذْرِیِّ مَعْذِرَةً
يَا لَآءِ مِیْ فِلْ هَ وَلْ عُذْ رِ یّْ یِ مَعْ ذِ رَ تَمْ

مِنِّیْ اِلَيْكَ وَلَوْ اَنْصَفْتَ لَمْ تَلُمِ
مِنّْ نِیْ اِ لَیْ كَ وَ لَوْ اَنْ صَفْ تَ لَمْ تَ لُ مِیْ

عَدَّتْكَ حَالِیْ وَلَا سِرِّیْ بِمُسْتَتِرٍ
عَ دَتْ كَ حَا لِیْ وَ لَا سِرّْ رِیْ بِ مُسْ تَ تِ رِنْ

عَنِ الْوُشَاةِ وَلَا دَآئِیْ بِمُنْحَسِمِ
عَ نِلْ وُ شَا ةِ وَ لَا دَآ ءِ یْ بِ مُنْ حَ سِ مِیْ

مَحَّضْتَنِی النُّصْحَ لٰكِنْ لَّسْتُ اَسْمَعُهٗ
مَحْ حَضْ تَ نِنّْ نُصْ حَ لَا كِلّْ لَسْ تُ اَسْ مَ عُ هُوْ

اِنَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُذَّالِ فِیْ صَمَمِ
اِنّْ نَلْ مُ حِبّْ بَ عَ نِلْ عُذّْ ذَا لِ فِیْ صَ مَ مِیْ

إِنِّي اتَّهَمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ فِي عَذَلِي

اِنْ نِتْ تَ هَمْ تُ نَ صِيْ حَشْ شَيْ بِ فِيْ عَ ذَ لِيْ

وَالشَّيْبُ اَبْعَدُ فِي نُصْحٍ عَنِ التُّهَمِ

وَشْ شَيْ بُ اَبْ عَ دُ فِيْ نُصْ حِنْ عَ نِتْ تُ هَ مِيْ

فَاِنَّ اَمَّارَتِي بِالسُّوْءِ مَا اتَّعَظَتْ

فَ اِنْ نَ اَمْ مَا رَ تِيْ بِسْ سُوْءِ مَتْ تَ عَ ظَتْ

مِنْ جَهْلِهَا بِنَذِيرِ الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ

مِنْ جَهْ لِ هَا بِ نَ ذِيْ رِشْ شَيْ بِ وَلْ هَ رَ مِيْ

وَلَا اَعَدَّتْ مِنَ الْفِعْلِ الْجَمِيلِ قِرَى

وَ لَا اَعَدْ دَتْ مِ نَلْ فِعْ لِلْ جَ مِيْ لِ قِ رَا

ضَيْفٍ اَلَمَّ بِرَاْسِي غَيْرَ مُحْتَشِمِ

ضَيْ فِنْ اَ لَمْ مَ بِ رَاْ سِيْ غَيْ رَ مُحْ تَ شِ مِيْ

لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنِّي مَا اُوَقِّرُهُ

لَوْ كُنْ تُ اَعْ لَ مُ اَنْ نِيْ مَا اُ وَقْ قِ رُ هُوْ

كَتَمْتُ سِرًّا بَدَا لِي مِنْهُ بِالْكَتَمِ

كَ تَمْ تُ سِرْ رَمْ بَ دَا لِيْ مِنْ هُ بِلْ كَ تَ مِيْ

مَنْ لِّیْ بِرَدِّ جِمَاحٍ مِّنْ غَوَایَتِهَا

مَلّْ لِیْ بِ رَدّْ دِ جِ مَا حِمّْ مِنْ غَ وَا یَ تِ هَا

كَمَا یُرَدُّ جِمَاحُ الْخَیْلِ بِاللُّجُمِ

كَ مَا یُ رَدّْ دُ جِ مَا حُلْ خَیْ لِ بِلّْ لُ جُ مِیْ

فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِیْ كَسْرَ شَهْوَتِهَا

فَ لَا تَ رُمْ بِلْ مَ عَا صِیْ كَسْ رَ شَهْ وَ تِ هَا

اِنَّ الطَّعَامَ یُقَوِّیْ شَهْوَةَ النَّهِمِ

اِنّْ نَطّْ طَ عَا مَ یُ قَوّْ وِیْ شَهْ وَ تَنّْ نَ هِ مِیْ

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰی

دَنّْ نَفْ سُ كَطّْ طِفْ لِ اِنْ تُهْ مِلْ هُ شَبّْ بَ عَ لَا

حُبِّ الرِّضَاعِ وَاِنْ تَفْطِمْهُ یَنْفَطِمِ

حُبّْ بِرّْ رِ ضَا عِ وَ اِنْ تَفْ طِمْ هُ یَنْ فَ طِ مِیْ

فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ اَنْ تُوَلِّیَهٗ

فَصْ رِفْ هَ وَا هَا وَ حَا ذِرْ اَنْ تُ وَلّْ لِ یَ هُوْ

اِنَّ الْهَوٰی مَا تَوَلّٰی یُصْمِ اَوْ یَصِمِ

اِنّْ نَلْ هَ وَا مَا تَ وَلّْ لَا یُصْ مِ اَوْ یَ صِ مِیْ

وَرَاعِهَا وَهِيَ فِي الْاَعْمَالِ سَآئِمَةٌ

وَ رَا عِ هَا وَ هِ يَ فِلْ اَعْ مَا لِ سَآ ءِ مَ تُنْ

وَاِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى فَلَا تُسِمِ

وَ اِنْ هِ يَسْ تَحْ لَ تِلْ مَرْ عَا فَ لَا تُ سِ مِي

كَمْ حَسَّنَتْ لَذَّةً لِّلْمَرْءِ قَاتِلَةً

كَمْ حَسْ سَ نَتْ لَذْ ذَ تَلّ لِلْ مَرْ ءِ قَا تِ لَ تَنْ

مِّنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ اَنَّ السَّمَّ فِي الدَّسَمِ

مِنْ حَيْ ثُ لَمْ يَدْرِ اَنْ نَسْ سَمْ مَ فِدْ دَ سَ مِي

وَاخْشَ الدَّسَآئِسَ مِنْ جُوْعٍ وَّمِنْ شِبَعِ

وَخْ شَدْ دَ سَآ ءِ سَ مِنْ جُوْ عِنْ ّ وَ مِنْ شِ بَ عِنْ

فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِّنَ التُّخَمِ

فَ رُبْ بَ مَخْ مَ صَ تِنْ شَرْ رُمْ مِ نَتْ تُ خَ مِي

وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِ امْتَلَأَتْ

وَسْ تَفْ رِغَدْ دَمْ عَ مِنْ عَيْ نِنْ قَ دِمْ تَ لَ اَتْ

مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ

مِ نَلْ مَ حَا رِمِ وَلْ زَمْ حِمْ يَ تَنْ نَ دَ مِي

قف يعني

وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا

وَ خَالِ فِنّ نَفْ سَ وَ شّ شَيْ طَانَ وَعْ صِ هِ مَا

وَاِنْ هُمَا مَحَضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ

وَ اِنْ هُ مَامَ حَ ضَاكَنّ نُصْ حَ فَتّ تَ هِ مِيْ

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَّلَا حَكَمًا

وَ لَا تُ طِعْ مِنْ هُ مَاخَصْ مَنْ وّ وَ لَا حَ كَ مَا

فَاَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ

فَ اَنْ تَ تَعْ رِفُ كَيْ دَلْ خَصْ مِ وَلْ حَ كَ مِيْ

ه اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَلٍ

اَسْ تَغْ فِ رُلّ لَاهَ مِنْ قَوْلِمْ بِ لَا عَ مَ لِنْ

لَقَدْ نَسَبْتُ بِهٖ نَسْلًا لِّذِيْ عُقُمِ

لَ قَدْ نَ سَبْ تُ بِ هِيْ نَسْ لَلّ لِ ذِيْ عُ قُ مِيْ

اَمَرْتُكَ الْخَيْرَ لٰكِنْ مَّا ائْتَمَرْتُ بِهٖ

اَ مَرْ تُ كَلْ خَيْ رَ لَا كِمّ مَ ءْ تَ مَرْ تُ بِ هِيْ

وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِيْ لَكَ اسْتَقِمِ

وَ مَسْ تَ قَمْ تُ فَ مَا قَوْ لِيْ لَ كَسْ تَ قِ مِيْ

وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً

وَ لَا تَ زَ وّْ وَ تّْ تُ قَبْ لَلْ مَوْ تِ نَا فِ لَ تَنْ

وَّلَمْ أُصَلِّ سِوَىٰ فَرْضٍ وَّلَمْ أَصُمِ

وَ لَمْ أُ صَلّْ لِ سِ وَا فَرْ ضِنْ وّْ وَ لَمْ اَ صُ مِي

ع ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَى الظَّلَامَ إِلَىٰ

ظَ لَمْ تُ سُنّْ نَ ةَ مَنْ اَحْ يَظّْ ظِ لَا مَ اِ لَا

إِنِ اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرَّ مِنْ وَّرَمِ

اَ نِشْ تَ كَتْ قَ دَ مَا هُضّْ ضُرّْ رَ مِنْ وّْ وَ رَ مِي

وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَىٰ

وَ شَدّْ دَ مِنْ سَ غَ بِنْ اَحْ شَآ ءَ هُوْ وَ طَ وَا

تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُّتْرَفَ الْأَدَمِ

تَحْ تَلْ حِ جَا رَ ةِ كَشْ حَمّْ مُتْ رَ فَلْ اَ دَ مِي

وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ

وَ رَا وَ دَتْ هُلْ جِ بَا لُشّْ شُمّْ مُ مِنْ ذَ هَ بِنْ

عَنْ نَّفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَمِ

عَنّْ نَفْ سِ هِي فَ اَ رَا هَا اَيّْ يَ مَا شَ مَ مِي

وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ
وَ وَاقِ فُوْنَ لَ دَیْ هِ عِنْ دَ حَدّْ دِ هِ مِیْ
مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ اَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ
مِنّْ نُقْ طَ تِلْ عِلْ مِ اَوْ مِنْ شَكْ لَ تِلْ حِ كَ مِیْ
فَهُوَ الَّذِیْ تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهُ
فَ هُ وَلّْ لَ ذِیْ تَمّْ مَ مَعْ نَا هُ وَصُوْ رَ تُ هُوْ
ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ
ثُمّْ مَصْ طَ فَا هُ حَ بِیْ بَمْ بَا رِءُ نّْ نَ سَ مِیْ
مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِیْ مَحَاسِنِهِ
مُ نَزّْ زَ هُنْ عَنْ شَ رِیْ كِنْ فِیْ مَ حَا سِ نِ هِیْ
فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ
فَ جَوْ هَ رُلْ حُسْ نِ فِیْ هِ غَیْ رُ مُنْ قَ سِ مِیْ
دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰی فِیْ نَبِيِّهِمِ
دَعْ مَدّْ دَ عَتْ هُنّْ نَ صَا رَا فِیْ نَ بِیّْ یِ هِ مِیْ
وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمِ
وَحْ كُمْ بِ مَا شِءْ تَ مَدْ حَنْ فِیْ هِ وَحْ تَ كِ مِیْ

فَانۡسُبۡ اِلٰی ذَاتِہٖ مَا شِئۡتَ مِنۡ شَرَفٍ
فَنۡ سُبۡ اِلَا ذَاتِ ہِیۡ مَا شِءۡ تَ مِنۡ شَ رَ فِنۡ

وَانۡسُبۡ اِلٰی قَدۡرِہٖ مَا شِئۡتَ مِنۡ عِظَمٖ
وَ نۡ سُبۡ اِلَا قَدۡرِ ہِیۡ مَا شِءۡ تَ مِنۡ عِ ظَ مِیۡ

فَاِنَّ فَضۡلَ رَسُوۡلِ اللّٰہِ لَیۡسَ لَہٗ
فَ اِنۡ نَ فَضۡ لَ رَسُوۡلِلّ لَا ہِ لَیۡ سَ لَ ہُوۡ

حَدٌّ فَیُعۡرِبُ عَنۡہُ نَاطِقٌۢ بِفَمٖ
حَدۡ دُنۡ فَ یُعۡ رِبُ عَنۡ ہُ نَا طِ قُمۡ بِ فَ مِیۡ

لَوۡ نَاسَبَتۡ قَدۡرَہٗ اٰیَاتُہٗ عِظَمًا
لَوۡ نَا سَ بَتۡ قَدۡ رَ ہُوۡ آ یَا تُ ہُوۡ عِ ظَ مَنۡ

اَحۡیَی اسۡمُہٗ حِیۡنَ یُدۡعٰی دَارِسَ الرِّمَمٖ
اَحۡ یَسۡ مُ ہُوۡ حِیۡ نَ یُدۡ عَا دَا رِ سَرۡ رِ مَ مِیۡ

آغاز اتوار
لَمۡ یَمۡتَحِنَّا بِمَا تَعۡیَ الۡعُقُوۡلُ بِہٖ
لَمۡ یَمۡ تَ حِنۡ نَا بِ مَا تَعۡ یَلۡ عُ قُوۡ لُ بِ ہِیۡ

حِرۡصًا عَلَیۡنَا فَلَمۡ نَرۡتَبۡ وَلَمۡ نَہِمٖ
حِرۡ صَنۡ عَ لَیۡ نَا فَ لَمۡ نَرۡتَبۡ وَلَمۡ نَ ہِ مِیۡ

اَعْيَى الْوَرٰے فَهْمُ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرٰے
اَ عْ يَلْ وَ رَا فَ هْ مُ مَعْ نَا هُ فَ لَيْ سَ يُ رَا

لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْفَخِمِ
لِلْ قُرْ بِ وَلْ بُعْ دِ فِيْ هِ غَيْ رُ مُنْ فَ خِ مِيْ

كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعُدٍ
كَشّْ شَمْ سِ تَظْ هَ رُ لِلْ عَيْ نَيْ نِ مِمْ بُعُ دِ نْ

صَغِيْرَةً وَّتُكِلُّ الطَّرْفَ مِنْ اُمَمِ
صَ غِيْ رَ تَنْ وّْ وَ تُ كِلّْ لُطّْ طَرْ فَ مِنْ اُ مَ مِيْ

وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيْقَتَهٗ
وَ كَيْ فَ يُدْ رِ كُ فِدّْ دُنْ يَا حَ قِيْ قَ تَ هُوْ

قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ
قَوْ مُنْ نِ يَا مُنْ تَ سَلّْ لَوْ عَنْ هُ بِلْ حُ لُ مِيْ

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اَنَّهٗ بَشَرٌ
فَ مَبْ لَ غُلْ عِلْ مِ فِيْ هِ اَنّْ نَ هُوْ بَ شَ رُنْ

وَاَنَّهٗ خَيْرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمِ
وَ اَنّْ نَ هُوْ خَيْ رُ خَلْ قِلّْ لَا هِ كُلّْ لِ هِ مِيْ

وَكُلُّ اٰیٍ اَتَی الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا

وَ كُلْ لُ آ یِنْ اَتَرْ رُ سُ لُلْ كِ رَامُ بِ هَا

فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُّوْرِهٖ بِهِمِ

فَ اِنْ نَ مَتْ تَ صَ لَتْ مِنْ نُوْ رِ هِیْ بِ هِ مِیْ

فَاِنَّهٗ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا

فَ اِنْ نَ هُوْ شَمْ سُ فَضْ لِنْ هُمْ كَ وَا كِ بُ هَا

یُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِی الظُّلَمِ

یُظْ هِرْ نَ اَنْ وَا رَ هَا لِنْ نَا سِ فِظْ ظُ لَ مِیْ

حَتّٰی اِذَا طَلَعَتْ فِی الْكَوْنِ عَمَّ هُدَا ★

حَتْ تَآ اِ ذَا طَ لَ عَتْ فِلْ كَوْ نِ عَمْ مَ هُ دَا

هَا الْعَالَمِیْنَ وَاَحْیَتْ سَآئِرَ الْاُمَمِ

هَلْ عَا لَ مِیْ نَ وَ اَحْ یَتْ سَآ ءِ رَلْ اُ مَ مِیْ

اَكْرِمْ بِخَلْقِ نَبِیٍّ زَانَهٗ خُلُقٌ

اَكْ رِمْ بِ خَلْ قِ نَ بِیْ یِنْ زَا نَ هُوْ خُ لُ قُنْ

بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٍ بِالْبِشْرِ مُتَّسِمِ

بِلْ حُسْ نِ مُشْ تَ مِ لِمْ بِلْ بِشْ رِ مُتْ تَ سِ مِیْ

كَالزَّهْرِ فِيْ تَرَفٍ وَّالْبَدْرِ فِيْ شَرَفٍ
كَزّْ زَهْ رِ فِيْ تَرَ فِنْ وّْ وَلْ بَدْ رِ فِيْ شَ رَ فِنْ

وَّالْبَحْرِ فِيْ كَرَمٍ وَّالدَّهْرِ فِيْ هِمَمِ
وَّلْ بَحْ رِ فِيْ كَ رَ مِنْ وّْ وَدّْ دَهْ رِ فِيْ هِ مَ مِيْ

كَاَنَّهٗ وَهُوَ فَرْدٌ فِيْ جَلَالَتِهٖ
كَ اَنّْ نَ هُوْ وَ هْ وَفَرْ دُنْ فِيْ جَ لَا لَ تِ هِيْ

فِيْ عَسْكَرٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ وَفِيْ حَشَمِ
فِيْ عَسْ كَ رِنْ حِيْ نَ تَلْ قَا هُ وَ فِيْ حَ شَ مِيْ

كَاَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُوْنُ فِيْ صَدَفٍ
كَ اَنّْ نَ مَلّْ لُ ءْ لُ ءُ لْ مَكْ نُوْ نُ فِيْ صَ دَ فِنْ

مِنْ مَّعْدِنَيْ مَنْطِقٍ مِّنْهُ وَمُبْتَسَمِ
مِمّْ مَعْ دِ نَيْ مَنْ طِ قِمّْ مِنْ هُ وَ مُبْ تَ سَ مِيْ

لَا طِيْبَ يَعْدِلُ تُرْبًا ضَمَّ اَعْظُمَهٗ
لَا طِيْ بَ يَعْ دِ لُ تُرْ بَنْ ضَمّْ مَ اَعْ ظُ مَ هُوْ

طُوْبٰى لِمُنْتَشِقٍ مِّنْهُ وَمُلْتَثِمِ
طُوْ بَا لِ مُنْ تَ شِ قِمّْ مِنْ هُ وَ مُلْ تَ ثِ مِيْ

اَبَانَ مَوْلِدُهٗ عَنْ طِيْبِ عُنْصُرِهٖ
اَ بَا نَ مَوْ لِ دُ هُوْ عَنْ طِيْ بِ عُنْ صُ رِ هِيْ

يَا طِيْبَ مُبْتَدَاءٍ مِّنْهُ وَمُخْتَتَمِ
يَا طِيْ بَ مُبْ تَ دَ اِمّ مِنْ هُوْ وَ مُخْ تَ تَ مِيْ

يَوْمٌ تَفَرَّسَ فِيْهِ الْفُرْسُ اَنَّهُمُ
يَوْ مُنْ تَ فَرْ رَ سَ فِيْ هِلْ فُرْ سُ اَنّ نَ هُ مُوْ

قَدْ اُنْذِرُوْا بِحُلُوْلِ الْبُؤْسِ وَالنِّقَمِ
قَدْ اُنْ ذِ رُوْ بِ حُ لُوْ لِلْ بُءْ سِ وَنّ نِ قَ مِيْ

وَبَاتَ اِيْوَانُ كِسْرٰے وَهُوَ مُنْصَدِعٌ
وَ بَا تَ اِيْ وَا نُ كِسْ رَا وَ هُ وَ مُنْ صَ دِ عُنْ

كَشَمْلِ اَصْحَابِ كِسْرٰى غَيْرَ مُلْتَئِمِ
كَ شَمْ لِ اَصْ حَا بِ كِسْ رَا غَيْ رَ مُلْ تَ ءِ مِيْ

وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْاَنْفَاسِ مِنْ اَسَفٍ
وَنّ نَا رُ خَامِ دَ تُلْ اَنْ فَا سِ مِنْ اَ سَ فِنْ

عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِى الْعَيْنِ مِنْ سَدَمِ
عَ لَيْ هِ وَنّ نَهْ رُ سَا هِلْ عَيْ نِ مِنْ سَ دَ مِيْ

وَسَآءَ سَاوَةَ اَنْ غَاضَتْ بُحَيْرَتُهَا

وَ سَآءَ سَاوَ ةَ اَنْ غَاضَتْ بُ حَيْ رَ تُ هَا

وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِيْنَ ظَمِىْ

وَ رُ دّ دَ وَا رِ دُ هَا بِلْ غَيْ ظِ حِيْ نَ ظَ مِيْ

كَاَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَآءِ مِنْ بَلَلٍ

كَ اَنّ نَ بِنّ نَا رِ مَا بِلْ مَآءِ مِمْ بَ لَ لِنْ

حُزْنًا وَّ بِالْمَآءِ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمِ

حُزْ نَنْ وّ وَ بِلْ مَآءِ مَا بِنْ نَّا رِ مِنْ ضَ رَ مِيْ

وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْاَنْوَارُ سَاطِعَةٌ

وَلْ جِنّ نُ تَهْ تِ فُ وَلْ اَنْ وَا رُ سَا طِ عَ تُنْ

وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَّعْنًى وَّمِنْ كَلِمِ

وَلْ حَقّ قُ يَظْ هَ رُ مِمْ مَعْ نَنْ وّ وَ مِنْ كَ لِ مِيْ

عَمُوْا وَصَمُّوْا فَاِعْلَانُ الْبَشَآئِرِ لَمْ

عَ مُوْ وَ صَمّ مُوْ فَ اِعْ لَا نُلْ بَ شَآءِ رِ لَمْ

تُسْمَعْ وَبَارِقَةُ الْاِنْذَارِ لَمْ تُشَمِ

تُسْ مَعْ وَ بَا رِ قَ تُلْ اِنْ ذَا رِ لَمْ تُ شَ مِيْ

مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرَ الْأَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ

مِمْ بَعْ دِ مَا اَ خْ بَ رَلْ اَقْ وَامَ كَا هِ نُ هُمْ

بِأَنَّ دِيْنَهُمُ الْمُعْوَجَّ لَمْ يَقُمِ

بِ اَنّْ نَ دِیْ نَ هُ مُلْ مُعْ وَ جّْ جَ لَمْ یَ قُ مِیْ

وَبَعْدَ مَا عَايَنُوْا فِي الْأُفُقِ مِنْ شُهُبٍ

وَ بَعْ دَ مَا عَا یَ نُوْ فِلْ اُ فُ قِ مِنْ شُ هُ بِنْ

مُنْقَضَّةٍ وَّفْقَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَنَمِ

مُنْ قَضّْ ضَ تِنْ وّْ وَفْ قَ مَا فِلْ اَرْ ضِ مِنْ صَ نَ مِیْ

آغاز پیر حَتّٰى غَدَا عَنْ طَرِيْقِ الْوَحْيِ مُنْهَزِمٌ

حَتّْ تَا غَ دَا عَنْ طَ رِیْ قِلْ وَحْ یِ مُنْ هَ زِ مُنْ

مِّنَ الشَّيَاطِيْنِ يَقْفُوْ إِثْرَ مُنْهَزِمِ

مِّ نَشّْ شَ یَا طِیْ نِ یَقْ فُوْ اِثْ رَ مُنْ هَ زِ مِیْ

كَأَنَّهُمْ هَرَبًا أَبْطَالُ أَبْرَهَةٍ

كَ اَنّْ نَ هُمْ هَ رَ بَنْ اَبْ طَا لُ اَبْ رَ هَ تِنْ

أَوْ عَسْكَرٌ بِالْحَصٰى مِنْ رَّاحَتَيْهِ رُمِيْ

اَوْ عَسْ كَ رُمْ بِلْ حَ صَا مِرّْ رَا حَ تَیْ هِ رُ مِیْ

نَبَذًا بِهٖ بَعْدَ تَسْبِيْحٍ بِبَطْنِهِمَا
نَبْ ذَمْ بِ هِيْ بَعْ دَ تَسْ بِيْ حِمْ بِ بَطْ نِ هِ مَا
نَبْذَ الْمُسَبِّحِ مِنْ اَحْشَآءِ مُلْتَقِمٖ
نَبْ ذَلْ مُ سَبْ بِ حِ مِنْ اَحْ شَآ ءِ مُلْ تَ قِ مِيْ
جَآءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْاَشْجَارُ سَاجِدَةً
جَآ ءَتْ لِ دَعْ وَ تِ هِلْ اَشْ جَا رُ سَا جِ دَ تَنْ
تَمْشِيْ اِلَيْهِ عَلٰى سَاقٍ بِلَا قَدَمٖ
تَمْ شِيْ اِلَيْ هِ عَ لَا سَا قِمْ بِ لَا قَ دَ مِيْ
كَاَنَّمَا سَطَّرَتْ سَطْرًا لِّمَا كَتَبَتْ
كَ اَنّ نَ مَا سَ طّطَ رَتْ سَطْ رَلّ لِ مَا كَ تَ بَتْ
فُرُوْعُهَا مِنْ بَدِيْعِ الْخَطِّ فِي اللَّقَمِ
فَ رُ وْ عُ هَا مِمْ بَ دِيْ عِلْ خَطّ طِ فِلّ لَ قَ مِيْ
مِثْلُ الْغَمَامَةِ اَنّٰى سَارَ سَآئِرَةً
مِثْ لُلْ غَ مَا مَ ةِ اَنّ نَا سَا رَ سَآ ءِ رَ تَنْ
تَقِيْهِ حَرَّ وَطِيْسٍ لِّلْهَجِيْرِ حَمِيْ
تَ قِيْ هِ حَرّ رَ وَ طِيْ سِلّ لِلْ هَ جِيْ رِ حَ مِيْ

اَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ اِنَّ لَهٗ

اَقْ سَمْ تُ بِلْ قَ مَ رِلْ مُنْ شَقّ قِ اِنّ نَ لَ هُوْ

مِنْ قَلْبِهٖ نِسْبَةً مَّبْرُوْرَةَ الْقَسَمِ

مِنْ قَلْ بِ هِیْ نِسْ بَ تَمّ مَبْ رُوْ رَ تَلْ قَ سَ مِیْ

وَمَا حَوَی الْغَارُ مِنْ خَیْرٍ وَّمِنْ کَرَمٍ

وَ مَا حَ وَلْ غَا رُ مِنْ خَیْ رِنْ وَّ مِنْ کَ رَ مِنْ

وَکُلُّ طَرْفٍ مِّنَ الْکُفَّارِ عَنْهُ عَمِ

وَ کُلّ لُ طَرْ فِمّ مِ نَلْ کُفّ فَا رِ عَنْ هُ عَ مِیْ

فَالصِّدْقُ فِی الْغَارِ وَالصِّدِّیْقُ لَمْ یَرِمَا

فَصّ صِدْ قُ فِلْ غَا رِ وَصّ صِدّ دِیْ قُ لَمْ یَ رِمَا

وَهُمْ یَقُوْلُوْنَ مَا بِالْغَارِ مِنْ اَرِمِ

وَ هُمْ یَ قُوْ لُوْ نَ مَا بِلْ غَا رِ مِنْ اَ رِ مِیْ

ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعَنْکَبُوْتَ عَلٰی

ظَنّ نُلْ حَ مَا مَ وَ ظَنّ نُلْ عَنْ کَ بُوْ تَ عَ لَا

خَیْرِ الْبَرِیَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُمِ

خَیْ رِلْ بَ رِیّ یَ ةِ لَمْ تَنْ سُجْ وَ لَمْ تَ حُ مِیْ

وِقَايَةُ اللّٰهِ اَغْنَتْ عَنْ مُّضَاعَفَةٍ
وِ قَا يَ تُلّ لَا هِ اَغْ نَتْ عَمّ مُ ضَا عَ فَ تِنْ
مِّنَ الدُّرُوْعِ وَعَنْ عَالٍ مِّنَ الْاُطُمِ
مِ نَدّ دُ رُوْ عِ وَ عَنْ عَالِمْ مِ نَلْ اُ طُ مِیْ

ءُ مَاسَامَنِی الدَّهْرُ ضَيْمًا وَّاسْتَجَرْتُ بِهٖ
مَا سَا مَ نِدّ دَهْ رُ ضَیْ مَنْ وّ وَسْ تَ جَرْ تُ بِ ہِیْ
اِلَّا وَنِلْتُ جِوَارًا مِّنْهُ لَمْ يُضَمِ
اِلّ لَا وَ نِلْ تُ جِ وَ ارَمّ مِنْ هُ لَمْ یُ ضَ مِیْ

ءُ وَلَا الْتَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَّدِهٖ
وَ لَلْ تَ مَسْ تُ غِ نَدّ دَا رَیْ نِ مِنْ یّ یَ دِ ہِیْ
اِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدٰى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلِمِ
اِلّ لَسْ تَ لَمْ تُنّ نَ دَا مِنْ خَیْ رِ مُسْ تَ لِ مِیْ

لَا تُنْكِرِ الْوَحْیَ مِنْ رُّؤْيَاهُ اِنَّ لَهٗ
لَا تُنْ كِ رِلْ وَحْ یَ مِرّ رُءْ یَا هُ اِنّ نَ لَ هُوْ
قَلْبًا اِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَمِ
قَلْ بَنْ اِذَا نَا مَ تَلْ عَیْ نَا نِ لَمْ یَ نَ مِیْ

فَذَاکَ حِیْنَ بُلُوْغٍ مِّنْ نُّبُوَّتِہٖ

فَ ذَا کَ حِیْ نَ بُ لُوْ غِمْ مِنْ نُ بُوْ وَ تِ ہِیْ

فَلَیْسَ یُنْکَرُ فِیْہِ حَالُ مُحْتَلِمِ

فَ لَیْ سَ یُنْ کَ رُ فِیْ ہِ حَا لُ مُحْ تَ لِ مِیْ

١١ تَبَارَکَ اللّٰہُ مَا وَحْیٌ بِمُکْتَسَبٍ

تَ بَا رَ کَلْ لَا ہُ مَا وَحْ یُمْ بِ مُکْ تَ سَ بِنْ

وَّلَا نَبِیٌّ عَلٰی غَیْبٍ بِمُتَّہَمِ

وَّ لَا نَ بِیْ یُنْ عَ لَا غَیْ بِمْ بِ مُتْ تَ ہَ مِیْ

★ اٰیَاتُہُ الْغُرُّ لَا یَخْفٰی عَلٰی اَحَدٍ

آ یَا تُ ہُلْ غُرْ رُ لَا یَخْ فَا عَلَا اَ حَ دِمْ

بِدُوْنِہَا الْعَدْلُ بَیْنَ النَّاسِ لَمْ یَقُمِ

بِ دُوْ نِہَلْ عَدْ لُ بَیْ نَنْ نَا سِ لَمْ یَ قُمِیْ

١٢ کَمْ اَبْرَاَتْ وَصِبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُہٗ

کَمْ اَبْ رَ اَتْ وَصَ بَمْ بِلْ لَمْ سِ رَا حَ تُ ہُوْ

وَاَطْلَقَتْ اَرِبًا مِّنْ رِّبْقَۃِ اللَّمَمِ

وَ اَطْ لَ قَتْ اَ رِبَمْ مِرْ رِبْ قَ تِلْ لَ مَ مِیْ

وَاَحْیَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَآءَ دَعْوَتُهٗ
وَ اَحْ یَ تِسّْ سَ نَ تَشّْ شَهْ بَآءَ دَعْ وَ تُ هُوْ
حَتّٰی حَکَتْ غُرَّةً فِی الْاَعْصُرِ الدُّهُمِ
حَتّْ تَا حَ کَتْ غُرّْ رَ تَنْ فِلْ اَعْ صُ رِدّْ دُ هُ مِیْ
بِعَارِضٍ جَادَ اَوْ خِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَا
بِ عَا رِضِنْ جَا دَ اَوْ خِلْ تَلْ بِ طَا حَ بِ هَا
سَیْبًا مِّنَ الْیَمِّ اَوْ سَیْلًا مِّنَ الْعَرِمِ
سَیْ بَمّْ مِ نَلْ یَمّْ مِ اَوْ سَیْ لَمّْ مِ نَلْ عَ رِ مِیْ
دَعْنِیْ وَوَصْفِیَ اٰیَاتٍ لَّهٗ ظَهَرَتْ
دَ عْ نِیْ وَ وَصْ فِ یَ آیَا تِلّْ لَ هُوْ ظَ هَ رَتْ
ظُهُوْرَ نَارِ الْقِرٰے لَیْلًا عَلٰی عَلَمِ
ظُ هُوْ رَ نَا رِلْ قِ رَا یْ لَنْ عَ لَا عَ لَ مِیْ
فَالدُّرُّ یَزْدَادُ حُسْنًا وَّهْوَ مُنْتَظِمٌ
فَدّْ دُرْ رُ یَزْ دَا دُ حُسْ نَنْ وّْ وَهْ وَ مُنْ تَ ظِمُنْ
وَّلَیْسَ یَنْقُصُ قَدْرًا غَیْرَ مُنْتَظِمِ
وَّ لَیْ سَ یَنْ قُ صُ قَدْ رَنْ غَیْ رَ مُنْ تَ ظِ مِیْ

فَمَا تَطَاوَلَ اٰمَالُ الْمَدِيْحِ اِلٰى

فَ مَا تَ طَا وَلَ آ مَا لُلْ مَ دِ يْ حِ اِ لَا

مَافِيْهِ مِنْ كَرَمِ الْاَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ

مَا فِيْ هِ مِنْ کَ رَ مِلْ اَ خْ لَا قِ وَشْ شِ يَ مِيْ

آغاز منگل

اٰيَاتُ حَقٍّ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثَةٌ

آ يَا تُ حَقْ قِمْ مِ نَرْ رَحْ مَا نِ مُحْ دَ ثَ تُنْ

قَدِيْمَةٌ صِفَةُ الْمَوْصُوْفِ بِالْقِدَمِ

قَ دِيْ مَ تُنْ صِ فَ تُلْ مَوْ صُوْ فِ بِلْ قِ دَ مِيْ

لَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَانٍ وَّهِيَ تُخْبِرُنَا

لَمْ تَقْ تَ رِنْ بِ زَ مَا نِنْ وْ وَ هْ يَ تُخْ بِ رُ نَا

عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَّعَنْ اِرَمِ

عَ نِلْ مَ عَا دِ وَ عَنْ عَا دِنْ وْ وَ عَنْ اِ رَ مِيْ

دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجِزَةٍ

دَا مَتْ لَ دَيْ نَا فَ فَا قَتْ كُلْ لَ مُعْ جِ زَ تِنْ

مِنَ النَّبِيِّيْنَ اِذْ جَآءَتْ وَلَمْ تَدُمِ

مِ نَنْ نَ بِيْ يِيْ نَ اِذْ جَا ءَتْ وَلَمْ تَ دُ مِيْ

مُحَکَّمَاتٌ فَمَا یُبْقِیْنَ مِنْ شُبَهٍ

مُ حَکْ کَ مَا تُنْ فَ مَا یُبْ قِیْ نَ مِنْ شُ بَ ہِنْ

لِّذِیْ شِقَاقٍ وَّلَا یَبْغِیْنَ مِنْ حَکَمِ

لِّ ذِیْ شِ قَا قِنْ وَّلَا یَبْ غِیْ نَ مِنْ حَ کَ مِیْ

مَا حُوْرِبَتْ قَطُّ اِلَّا عَادَ مِنْ حَرَبٍ

مَا حُوْ رِ بَتْ قَطّْ طُ اِلّْ لَا عَا دَ مِنْ حَ رَ بِنْ

اَعْدَی الْاَعَادِیْٓ اِلَیْهَا مُلْقِیَ السَّلَمِ

اَعْ دَلْ اَ عَا دِیْٓ اِ لَیْ ہَا مُلْ قِ یَسّْ سَ لَ مِیْ

رَدَّتْ بَلَاغَتُهَا دَعْوٰی مُعَارِضِهَا

رَدّْ دَتْ بَ لَا غَ تُ ہَا دَعْ وَا مُ عَا رِ ضِ ہَا

رَدَّ الْغَیُوْرِ یَدَ الْجَانِیْ عَنِ الْحَرَمِ

رَدّْ دَلْ غَ یُوْ رِ یَ دَلْ جَا نِیْ عَ نِلْ حَ رَ مِیْ

لَهَا مَعَانٍ کَمَوْجِ الْبَحْرِ فِیْ مَدَدٍ

لَ ہَا مَ عَا نِنْ کَ مَوْ جِلْ بَحْ رِ فِیْ مَ دَ دِنْ

وَّفَوْقَ جَوْهَرِهٖ فِی الْحُسْنِ وَالْقِیَمِ

وَّ فَوْ قَ جَوْ ہَ رِہِیْ فِلْ حُسْ نِ وَلْ قِ یَ مِیْ

فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى عَجَآئِبُهَا
فَ مَا تُ عَدْ دُ وَ لَا تُحْ صَا عَ جَآ ءِ بُ هَا
وَلَا تُسَامُ عَلَى الْاِكْثَارِ بِالسَّأَمِ
وَ لَا تُ سَا مُ عَ لَلْ اِكْ ثَا رِ بِسْ سَ أَ مِيْ
قَرَّتْ بِهَا عَيْنُ قَارِيْهَا فَقُلْتُ لَهٗ
قَرْ رَتْ بِ هَا عَيْ نُ قَا رِيْ هَا فَ قُلْ تُ لَ هُوْ
لَقَدْ ظَفِرْتَ بِحَبْلِ اللّٰهِ فَاعْتَصِمِ
لَ قَدْ ظَ فِرْتَ بِ حَبْ لِلْ لَا هِ فَعْ تَ صِ مِيْ
اِنْ تَتْلُهَا خِيْفَةً مِّنْ حَرِّ نَارِ لَظٰى
اِنْ تَتْ لُ هَا خِيْ فَ تَمْ مِنْ حَرْ رِ نَا رِ لَ ظَا
اَطْفَأْتَ حَرَّ لَظٰى مِنْ وِّرْدِهَا الشَّبِمِ
اَطْ فَأْ تَ حَرْ رَ لَ ظَا مِنْ وْ وِ رْ دِ هَشْ شَ بِ مِيْ
كَاَنَّهَا الْحَوْضُ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ بِهٖ
كَ اَنْ نَ هَلْ حَوْ ضُ تَبْ يَضْ ضُلْ وُ جُوْ هُ بِ هِيْ
مِنَ الْعُصَاةِ وَقَدْ جَآءُوْهُ كَالْحُمَمِ
مِ نَلْ عُ صَا ةِ وَ قَدْ جَآ ءُوْ هُ كَلْ حُ مَ مِيْ

وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةً

وَ كَصّ صِ رَاطِ وَ كَلْ مِيْ زَ ا نِ مَعْ دِلَ تَنْ

فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمِ

فَلْ قِسْ طُ مِنْ غَيْ رِهَا فِنّ نَاسِ لَمْ يَ قُ مِيْ

لَا تَعْجَبَنْ لِحَسُوْدٍ رَّاحَ يُنْكِرُهَا

لَا تَعْ جَ بَلّ لِ حَ سُوْ دِرّ رَاحَ يُنْ كِ رُهَا

تَجَاهُلًا وَّهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهِمِ

تَ جَا هُ لَنْ وَّ هُ وَ عَيْ نُلْ حَا ذِقِلْ فَ هِ مِيْ

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَّمَدٍ

قَدْ تُنْ كِ رُلْ عَيْ نُ ضَوْ ءَشّ شَمْ سِ مِرّ رَ مَ دِنْ

وَّيُنْكِرُ الْفَمُّ طَعْمَ الْمَآءِ مِنْ سَقَمِ

وَّ يُنْ كِ رُلْ فَ مّ مُ طَعْ مَلْ مَآءِ مِنْ سَ قَ مِيْ

يَا خَيْرَ مَنْ يَّمَّمَ الْعَافُوْنَ سَاحَتَهٗ

يَا خَيْ رَ مَنْ يّ يَمّ مَ مَلْ عَا فُوْنَ سَا حَ تَ هُوْ

سَعْيًا وَّفَوْقَ مُتُوْنِ الْاَيْنُقِ الرُّسُمِ

سَعْ يَنْ وّ وَ فَوْ قَ مُ تُوْ نِلْ اَيْ نُ قِرّ رُ سُ مِيْ

۱۴ وَمَنْ هُوَ الْاٰيَةُ الْکُبْرٰی لِمُعْتَبِرٍ

وَ مَنْ هُ وَلْ آ یَ تُلْ کُبْ رَالِ مُعْ تَ بِ رِنْ

وَّمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمٰی لِمُغْتَنِمِ

وَّ مَنْ هُ وَنّْ نِعْ مَ تُلْ عُظْ مَالِ مُغْ تَ نِ مِیْ

۱۵ سَرَیْتَ مِنْ حَرَمٍ لَّیْلًا اِلٰی حَرَمٍ

سَ رَیْ تَ مِنْ حَ رَ مِلّْ لَیْ لَنْ اِلَا حَ رَ مِنْ

کَمَا سَرَی الْبَدْرُ فِیْ دَاجٍ مِّنَ الظُّلَمِ

کَ مَا سَ رَلْ بَدْ رُ فِیْ دَا جِمّْ مِ نَظّْ ظُ لَ مِیْ

وَبِتَّ تَرْقٰیٓ اِلٰٓی اَنْ نِّلْتَ مَنْزِلَةً

وَ بِتّْ تَ تَرْ قَآ اِلَآ اَنّْ نِلْ تَ مَنْ زِ لَ تَنْ

مِنْ قَابَ قَوْسَیْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ

مِنْ قَا بَ قَوْ سَیْ نِ لَمْ تُدْ رَکْ وَ لَمْ تُ رَ مِیْ

وَقَدَّمَتْكَ جَمِیْعُ الْاَنْبِیَآءِ بِهَا

وَ قَدّْ دَ مَتْ کَ جَ مِیْ عُلْ اَمْ بِ یَآءِ بِ هَا

وَالرُّسْلِ تَقْدِیْمَ مَخْدُوْمٍ عَلٰی خَدَمِ

وَرّْ رُسْ لِ تَقْ دِیْ مَ مَخْ دُوْ مِنْ عَ لَا خَ دَ مِیْ

وَانْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ

وَ اَنْ تَ تَخْ تَ رِ قُسّ سَبْ عَطّ طِ بَا قَ بِ هِمْ

فِيْ مَوْكِبٍ كُنْتَ فِيْهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ

فِيْ مَوْ كِ بِنْ كُنْ تَ فِيْ هِ صَا حِ بَلْ عَ لَ مِيْ

حَتّٰٓى اِذَا لَمْ تَدَعْ شَأْوًا لِّمُسْتَبِقٍ

حَتّ تَآ اِذَا لَمْ تَ دَعْ شَءْ وَلّ لِ مُسْ تَ بِ قِنْ

مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْقًى لِّمُسْتَنِمِ

مِ نَدّ دُ نُوّ وِ وَ لَا مَرْ قَلّ لِ مُسْ تَ نِ مِيْ

خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْاِضَافَةِ اِذْ

خَ فَضْ تَ كُلّ لَ مَ قَا مِمْ بِلْ اِ ضَا فَ ةِ اِذْ

نُوْدِيْتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِ

نُوْ دِيْ تَ بِرّ رَفْ عِ مِثْ لَلْ مُفْ رَ دِلْ عَ لَ مِيْ

كَيْمَا تَفُوْزَ بِوَصْلٍ اَيِّ مُسْتَتِرٍ

كَيْ مَا تَ فُوْ زَ بِ وَصْ لِنْ اَيّ يِ مُسْ تَ تِ رِنْ

عَنِ الْعُيُوْنِ وَسِرٍّ اَيِّ مُكْتَتِمِ

عَ نِلْ عُ يُوْ نِ وَ سِرّ رِنْ اَيّ يِ مُكْ تَ تِ مِيْ

فَحُزْتَ كُلَّ فِخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ

فَ حُزْ تَ كُلْ لَ فِ خَا رِنْ غَيْ رَ مُشْ تَ رَ كِنْ

وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِ

وَ جُزْ تَ كُلْ لَ مَ قَا مِنْ غَيْ رَ مُزْ دَ حَ مِیْ

وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُلِّيْتَ مِنْ رُّتَبٍ آغاز بدھ

وَ جَلْ لَ مِقْ دَا رُ مَا وُلْ لِیْ تَ مِرْ رُ تَ بِنْ

وَّعَزَّ اِدْرَاكُ مَآ اُوْلِيْتَ مِنْ نِّعَمِ

وَّ عَزْ زَا اِدْ رَا كُ مَآ اُوْ لِیْ تَ مِ نْ نِ عَ مِیْ

بُشْرٰى لَنَا مَعْشَرَ الْاِسْلَامِ اِنَّ لَنَا

بُشْ رَا لَ نَا مَعْ شَ رَلْ اِسْ لَا مِ اِنْ نَ لَ نَا

مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ

مِ نَلْ عِ نَا یَ تِ رُكْ نَنْ غَیْ رَ مُنْ هَ دِ مِیْ

لَمَّا دَعَى اللّٰهُ دَاعِيْنَا لِطَاعَتِهٖ

لَمْ مَا دَ عَلْ لَا هُ دَا عِیْ نَا لِ طَا عَ تِ هِیْ

بِاَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّآ اَكْرَمَ الْاُمَمِ

بِ اَكْ رَ مِرْ رُ سُ لِ كُنْ نَآ اَكْ رَ مَلْ اُ مَ مِیْ

رَاعَتْ قُلُوْبَ الْعِدٰی اَنْبَآءُ بِعْثَتِهٖ

رَا عَتْ قُ لُوْ بَلْ عِ دَآ اَمْ بَآءُ بِعْ ثَ تِ هِیْ

كَنَبْأَةٍ اَجْفَلَتْ غُفْلًا مِّنَ الْغَنَمِ

كَ نَبْ اَتِنْ اَجْ فَ لَتْ غُفْ لَمّْ مِ نَلْ غَ نَ مِیْ

مَا زَالَ يَلْقَاهُمُوْ فِیْ كُلِّ مُعْتَرَكٍ

مَا زَالَ يَلْ قَا هُمُوْ فِیْ كُلّْ لِ مُعْ تَ رَكِنْ

حَتّٰی حَكَوْا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلٰی وَضَمِ

حَتّْ تَا حَ كَوْ بِلْ قَ نَا لَحْ مَنْ عَ لَا وَ ضَ مِیْ

وَدُّوا الْفِرَارَ فَكَادُوْا يَغْبِطُوْنَ بِهٖ

وَ دّْ دُلْ فِ رَارَفَ كَادُوْ يَغْ بِ طُوْنَ بِ هِیْ

اَشْلَآءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرَّخَمِ

اَشْ لَآءَ شَالَتْ مَ عَلْ عِقْ بَانِ وَرّْ رَ خَ مِیْ

تَمْضِی اللَّيَالِیْ وَلَا يَدْرُوْنَ عِدَّتَهَا

تَمْ ضِلّْ لَ يَالِیْ وَ لَا يَدْ رُوْ نَ عِدّْ دَ تَ هَا

مَا لَمْ تَكُنْ مِّنْ لَّيَالِی الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ

مَا لَمْ تَ كُمّْ مِلّْ لَ يَا لِلْ اَشْ هُ رِلْ حُ رُ مِیْ

كَاَنَّمَا الدِّيۡنُ ضَيۡفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمۡ

كَ اَنّۡ نَ مَدّۡ دِيۡ نُ ضَيۡ فُنۡ حَلّۡ لَ سَا حَ تَ هُمۡ

بِكُلِّ قَرۡمٍ اِلٰى لَحۡمِ الۡعِدٰى قَرِمٍ

بِ كُلّۡ لِ قَرۡ رِمۡ اِلَا لَحۡ مِلۡ عِ دَا قَ رِ مِيۡ

يَجُرُّ بَحۡرَ خَمِيۡسٍ فَوۡقَ سَابِحَةٍ

يَ جُرّۡ رُ بَحۡ رَ خَ مِيۡ سِنۡ فَوۡقَ سَا بِ حَ تِنۡ

تَرۡمِيۡ بِمَوۡجٍ مِّنَ الۡاَبۡطَالِ مُلۡتَطِمٍ

تَرۡ مِيۡ بِ مَوۡ جِمّۡ مِ نَلۡ اَبۡ طَا لِ مُلۡ تَ طِ مِيۡ

مِنۡ كُلِّ مُنۡتَدِبٍ لِّلّٰهِ مُحۡتَسِبٍ

مِنۡ كُلّۡ لِ مُنۡ تَ دِ بِلّۡ لِلّۡ لَا هِ مُحۡ تَ سِ بِنۡ

يَسۡطُوۡ بِمُسۡتَاۡصِلٍ لِّلۡكُفۡرِ مُصۡطَلِمٍ

يَسۡ طُوۡ بِ مُسۡ تَاۡ صِ لِلّۡ لِلۡ كُفۡ رِمُصۡ طَ لِ مِيۡ

حَتّٰى غَدَتۡ مِلَّةُ الۡاِسۡلَامِ وَهۡيَ بِهِمۡ

حَتّۡ تَا غَ دَتۡ مِلّۡ لَ تُلۡ اِسۡ لَامِ وَ هۡ يَ بِ هِمۡ

مِّنۡۢ بَعۡدِ غُرۡبَتِهَا مَوۡصُوۡلَةَ الرَّحِمِ

مِمۡ بَعۡ دِ غُرۡ بَ تِ هَا مَوۡ صُوۡ لَ تَرّۡ رَ حِ مِيۡ

مَكْفُوْلَةً اَبَدًا مِّنْهُمْ بِخَيْرِ اَبٍ

مَكْ فُوْ لَ تَنْ اَ بَ دَمّْ مِنْ هُمْ بِ خَيْ رِ اَ بِنْ

وَّخَيْرِ بَعْلٍ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَئِمِ

ؔوَ خَيْ رِ بَعْ لِنْ فَ لَمْ تَيْ تَمْ وَ لَمْ تَ ءِ مِيْ

هُمُ الْجِبَالُ فَسَلْ عَنْهُمْ مُّصَادِمَهُمْ

هُ مُلْ جِ بَا لُ فَ سَلْ عَنْ هُمْ مُ صَا دِ مَ هُمْ

مَاذَا رَاٰی مِنْهُمُوْ فِیْ كُلِّ مُصْطَدَمِ

مَا ذَا رَایَا مِنْ هُ مُوْ فِیْ كُلْ لِ مُصْ طَ دَ مِیْ

وَسَلْ حُنَيْنًا وَّسَلْ بَدْرًا وَّسَلْ اُحُدًا

وَ سَلْ حُ نَیْ نَنْ وَّ سَلْ بَدْ رَنْ وَّ سَلْ اُ حُ دَا

فُصُوْلَ حَتْفٍ لَّهُمْ اَدْهٰی مِنَ الْوَخَمِ

فُ صُوْ لَ حَتْ فِلْ لَ هُمْ اَدْ هَا مِ نَلْ وَ خَ مِیْ

اَلْمُصْدِرِی الْبِیْضِ حُمْرًا بَعْدَ مَا وَرَدَتْ

اَلْ مُصْ دِ رِلْ بِیْ ضِ حُمْ رَمْ بَعْ دَ مَا وَ رَ دَتْ

مِنَ الْعِدٰی كُلَّ مُسْوَدٍّ مِّنَ اللِّمَمِ

مِ نَلْ عِ دَا كُلْ لَ مُسْ وَدْ دِمْ مِ نَلْ لِ مَ مِیْ

وَالْكَاتِبِيْنَ بِسُمْرِ الْخَطِّ مَا تَرَكَتْ

وَلْ كَاتِ بِیْ نَ بِ سُمْ رِلْ خَطّْ طِ مَا تَ رَكَتْ

اَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَیْرَ مُنْعَجِمِ

اَقْ لَامُ هُمْ حَرْفَ جِسْ مِنْ غَیْ رَ مُنْ عَ جِ مِیْ

شَاكِی السِّلَاحِ لَهُمْ سِیْمَا تُمَیِّزُهُمْ

شَا كِسّْ سِ لَا حِ لَ هُمْ سِیْ مَا تُ مَیّْ یِ زُ هُمْ

وَالْوَرْدُ یَمْتَازُ بِالسِّیْمَا مِنَ السَّلَمِ

وَلْ وَرْ دُ یَمْ تَا زُ بِسّْ سِیْ مَا مِ نَسّْ سَ لَ مِیْ

تُهْدِیْ اِلَیْكَ رِیَاحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمْ

تُهْ دِ یْ اِلَیْ کَ رِ یَا حُنّْ نَصْ رِ نَشْ رَ هُ مُوْ

فَتَحْسَبُ الزَّهْرَ فِی الْاَكْمَامِ كُلَّ كَمِیْ

فَ تَحْ سَ بُزّْ زَ هْ رَ فِلْ اَکْ مَا مِ کُلّْ لَ کَ مِیْ

كَاَنَّهُمْ فِیْ ظُهُوْرِ الْخَیْلِ نَبْتُ رُبًی

کَ اَنّْ نَ هُمْ فِیْ ظُ هُوْ رِلْ خَیْ لِ نَبْ تُ رُ بَا

مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شَدَّةِ الْحُزُمِ

مِنْ شِدّْ دَ تِلْ حَزْ مِ لَا مِنْ شَدّْ دَ تِلْ حُ زُ مِیْ

طَارَتْ قُلُوْبُ الْعِدٰی مِنْ بَأْسِہٖ فَرَقًا
طَا رَتْ قُ لُوْ بُلْ عِ دَا اِمْ بَاْ سِ ہِیْ فَ رَقَنْ

فَمَا تُفَرِّقُ بَیْنَ الْبَھْمِ وَالْبُھَمِ
فَ مَا تُ فَرْ رِ قُ بَیْ نَلْ بَھْ مِ وَلْ بُ ھَ مِیْ

ع١٦ وَمَنْ تَکُنْ بِرَسُوْلِ اللّٰہِ نُصْرَتُہٗ
وَ مَنْ تَ کُنْ بِ رَسُوْلِلّ لَا ہِ نُصْ رَ تُ ہُوْ

اِنْ تَلْقَہُ الْاُسْدُ فِیْ آجَامِہَا تَجِمِ
اِنْ تَلْ قَ ہُلْ اُسْ دُ فِیْ آ جَا مِ ہَا تَ جِ مِیْ

وَلَنْ تَرٰی مِنْ وَّلِیٍّ غَیْرِ مُنْتَصِرٍ
وَ لَنْ تَ رَا مِنْ وْ وَلِیّ یِنْ غَیْ رِ مُنْ تَ صِ رِنْ

بِہٖ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَیْرِ مُنْقَصِمِ
بِ ہِیْ وَ لَا مِنْ عَ دُ وّ وِنْ غَیْ رِ مُنْ قَ صِ مِیْ

اَحَلَّ اُمَّتَہٗ فِیْ حِرْزِ مِلَّتِہٖ
اَحَلّ لَ اُمّ مَ تَ ہُوْ فِیْ حِرْ زِ مِلّ لَ تِ ہِیْ

کَاللَّیْثِ حَلَّ مَعَ الْاَشْبَالِ فِیْ اَجَمِ
کَلّ لَیْ ثِ حَلّ لَ مَ عَلْ اَشْ بَا لِ فِیْ اَ جَ مِیْ

آغازِ معجزات

كَمْ جَدَّلَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ مِنْ جَدِلِ

كَمْ جَدّ دَ لَتْ كَ لِ مَا تُلْ لَا هِ مِنْ جَ دِ لِنْ

فِيهِ وَكَمْ خَصَّمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِمِ

فِیْ هِ وَ كَمْ خَصّ صَ مَلْ بُرْ هَا نُ مِنْ خَ صِ مِیْ

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجِزَةً

كَ فَا كَ بِلْ عِلْ مِ فِلْ اُمْ مِیّ یِ مُعْ جِ زَ تَنْ

فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّادِيبِ فِي الْيُتُمِ

فِلْ جَا هِ لِیّ یَ تِ وَتّ تَا دِیْ بِ فِلْ یُ تُ مِیْ

خَدَمْتُهُ بِمَدِيحٍ اَسْتَقِيلُ بِهِ

خَ دَمْ تُ هُوْ بِ مَ دِیْ حِنْ اَسْ تَ قِیْ لُ بِ هِیْ

ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضَى فِي الشِّعْرِ وَالْخِدَمِ

ذُ نُوْ بَ عُمْ رِمّ مَ ضَا فِشّ شِعْ رِ وَلْ خِ دَ مِیْ

اِذْ قَلَّدَانِیَ مَا تُخْشٰی عَوَاقِبُهُ

اِذْ قَلّ لَ دَا نِ یَ مَا تُخْ شَا عَ وَا قِ بُ هُوْ

كَاَنَّنِیْ بِهِمَا هَدْیٌ مِنَ النَّعَمِ

كَ اَنّ نَ نِیْ بِ هِ مَا هَدْ یُمْ مِ نَنّ نَ عَ مِیْ

اَطَعْتُ غَیَّ الصِّبَا فِی الْحَالَتَیْنِ وَمَا

اَ طَعْ تُ غَیّ یَصّْ صِ بَا فِلْ حَالَ تَیْ نِ وَ مَا

حَصَّلْتُ اِلَّا عَلَی الْاٰثَامِ وَالنَّدَمِ

حَصّْ صَلْ تُ اِلّْ لَاعَ لَلْ آثَامِ وَ نّْ نَ دَ مِیْ

فَیَا خَسَارَةَ نَفْسٍ فِیْ تِجَارَتِهَا

فَ یَا خَ سَارَةَ نَفْ سِنْ فِیْ تِ جَارَتِ هَا

لَمْ تَشْتَرِ الدِّیْنَ بِالدُّنْیَا وَلَمْ تَسُمِ

لَمْ تَشْ تَ رِدّْ دِیْ نَ بِدّْ دُنْ یَا وَلَمْ تَ سُ مِیْ

وَمَنْ یَّبِعْ اٰجِلًا مِّنْهُ بِعَاجِلِهٖ

وَ مَنْ یّْ یَ بِعْ آجِ لَمّْ مِنْ هُ بِ عَاجِ لِ هِیْ

یَبِنْ لَّهُ الْغُبْنُ فِیْ بَیْعٍ وَّفِیْ سَلَمِ

یَ بِلّْ لَ هُلْ غُبْ نُ فِیْ بَیْ عِنْ وّْ وَ فِیْ سَ لَ مِیْ

اِنْ اٰتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِیْ بِمُنْتَقِضٍ

اِنْ آتِ ذَمْ بَنْ فَ مَا عَهْ دِیْ بِ مُنْ تَ قِ ضِنْ

مِّنَ النَّبِیِّ وَلَا حَبْلِیْ بِمُنْصَرِمِ

مِ نَنّْ نَ بِیّْ یِ وَ لَا حَبْ لِیْ بِ مُنْ صَ رِ مِیْ

؎ فَاِنَّ لِیْ ذِمَّۃً مِّنْہُ بِتَسْمِیَتِیْ

فَ اِنْ نَ لِیْ ذِمْ مَ تَمْ مِنْ ہُ بِ تَسْ مِ یَ تِیْ

مُحَمَّدًا وَّہُوَاَوْفَی الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

مُ حَمْ مَ دَنْ وْ وَ ھُ وَاَوْ فَلْ خَلْ قِ بِذْ ذِ مَ مِیْ

اِنْ لَّمْ یَكُنْ فِیْ مَعَادِیْ آخِذًا بِیَدِیْ

اِلْ لَمْ یَ کُنْ فِیْ مَ عَا دِیْ آ خِ ذَمْ بِ یَ دِیْ

فَضْلًا وَّاِلَّا فَقُلْ یَا زَلَّۃَ الْقَدَمِ

فَضْ لَنْ وْ وَ اِلْ لَا فَ قُلْ یَا زَلْ لَ تَلْ قَ دَ مِیْ

حَاشَاہُ اَنْ یُّحْرَمَ الرَّاجِیْ مَكَارِمَہٗ

حَا شَا ہُ اَنْ یْ یُحْ رَ مَرْ رَا جِیْ مَ کَا رِ مَ ہُوْ

اَوْ یَرْجِعَ الْجَارُ مِنْہُ غَیْرَ مُحْتَرَمِ

اَوْ یَرْ جِ عَلْ جَا رُ مِنْ ہُ غَیْ رَ مُحْ تَ رَ مِیْ

وَمُنْذُ اَلْزَمْتُ اَفْكَارِیْ مَدَآئِحَہٗ

وَ مُنْ ذُ اَلْ زَمْ تُ اَفْ کَا رِ یْ مَ دَ آ ءِ حَ ہُوْ

وَجَدْتُّہٗ لِخَلَاصِیْ خَیْرَ مُلْتَزِمِ

وَ جَتْ تُ ہُوْ لِ خَ لَا صِیْ خَیْ رَ مُلْ تَ زِ مِیْ

وَلَنْ یَّفُوْتَ الْغِنٰی مِنْهُ یَدًا تَرِبَتْ

وَ لَنْ یّ یَ فُوْ تَلْ غِ نَا مِنْ هُ یَ دَنْ تَ رِبَتْ

اِنَّ الْحَیَا یُنْبِتُ الْاَزْهَارَ فِی الْاَکَمِ

اِنّ نَلْ حَ یَا یُنْ بِ تُلْ اَزْ هَا رَ فِلْ اَ کَ مِیْ

وَلَمْ اُرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْیَا الَّتِی اقْتَطَفَتْ

وَ لَمْ اُ رِ دْ زَهْ رَ تَدّ دُنْ یَلّ لَ تِقْ تَ طَ فَتْ

یَدَا زُهَیْرٍ بِمَآ اَثْنٰی عَلٰی هَرِمِ

یَ دَا زُ هَیْ رِمْ بِ مَآ اَثْ نَا عَ لَا هَ رِمِیْ

۸ یَآ اَکْرَمَ الْخَلْقِ مَالِیْ مَنْ اَلُوْذُ بِهٖ

یَآ اَکْ رَ مَلْ خَلْ قِ مَا لِیْ مَنْ اَ لُوْ ذُ بِ هِیْ

سِوَاکَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

سِ وَا کَ عِ نْ دَ حُ لُوْ لِلْ حَا دِ ثِلْ عَ مَ مِیْ

۹ وَلَنْ یَّضِیْقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ جَاهُکَ بِیْ

وَ لَنْ یّ یَ ضِیْ قَ رَ سُوْ لَلّ لَا هِ جَا هُ کَ بِیْ

اِذَا الْکَرِیْمُ تَجَلّٰی بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

اِ ذَلْ کَ رِیْ مُ تَ جَلّ لَا بِ سْ مِ مُنْ تَ قِ مِیْ

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا
فَ اِنّ نَ مِنْ جُوْ دِ كَدّ دُ نْ يَا وَ ضَرّ رَ تَ هَا
وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ
وَ مِنْ عُ لُوْمِ كَ عِلْ مَلّ لَوْ حِ وَلْ قَ لَ مِيْ
يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِيْ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ
يَا نَفْ سُ لَا تَقْ نَ طِيْ مِنْ زَلّ لَ تِنْ عَ ظُمَتْ
اِنَّ الْكَبَآئِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ
اِنّ نَلْ كَ بَآ ءِ رَ فِلْ غُفْ رَا نِ كَلّ لَ مَ مِيْ
لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّيْ حِيْنَ يَقْسِمُهَا
لَ عَلّ لَ رَحْ مَ ةَ رَبّ بِيْ حِيْ نَ يَقْ سِ مُ هَا
تَأْتِيْ عَلٰى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقِسَمِ
تَاْ تِيْ عَ لَا حَ سَ بِلْ عِصْ يَا نِ فِلْ قِ سَ مِيْ
يَا رَبِّ وَاجْعَلْ رَجَآئِيْ غَيْرَ مُنْعَكِسٍ
يَا رَبّ بِ وَجْ عَلْ رَ جَآ ءِيْ غَيْ رَ مُنْ عَ كِ سِنْ
لَّدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِيْ غَيْرَ مُنْخَرِمِ
لّ دَيْ كَ وَجْ عَلْ حِ سَا بِيْ غَيْ رَ مُنْ خَ رِ مِيْ

وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ اِنَّ لَہٗ

دَلْ طُفْ بِ عَبْ دِکَ فِدّْ دَا رَیْ نِ اِنّْ نَ لَ ہُوْ

صَبْرًا مَّتٰی تَدْعُہُ الْاَھْوَالُ یَنْھَزِمِ

صَبْ رَمّْ مَ تَا تَدْ عُ ہُلْ اَھْ وَا لُ یَنْ ھَ زِ مِیْ

وَائْذَنْ لِّسُحْبِ صَلٰوۃٍ مِّنْکَ دَآئِمَۃٍ

وَءْ ذَنْ لِ سُحْ بِ صَ لَا تِمّْ مِنْ کَ دَ آ ءِ مَ تِنْ

عَلَی النَّبِیِّ بِمُنْھَلٍّ وَّمُنْسَجِمِ

عَ لَنّْ نَ بِیّْ یِ بِ مُنْ ہَلّْ لِنْ وّْ وَ مُنْ سَ جِ مِیْ

★ وَالْاٰلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِیْنَ لَھُمْ

وَلْ آ لِ وَصّْ صَحْ بِ ثُمّْ مَتّْ تَا بِ عِیْ نَ لَ ہُمْ

اَھْلِ التُّقٰی وَالنُّقٰی وَالْحِلْمِ وَالْکَرَمِ

اَھْ لِتّْ تُ قَا وَنّْ نُ قَا وَلْ حِلْ مِ وَلْ کَ رَ مِیْ

★ ثُمَّ الرِّضَا عَنْ اَبِیْ بَکْرٍ وَّعَنْ عُمَرَ

ثُمّْ مَرّْ رِ ضَا عَنْ اَ بِیْ بَکْ رِنْ وّْ وَ عَنْ عُ مَرَ

وَعَنْ عَلِیٍّ وَّعَنْ عُثْمَانَ ذِی الْکَرَمِ

وَ عَنْ عَ لِیّْ یِنْ وّْ وَ عَنْ عُثْ مَا نَ ذِلْ کَ رَ مِیْ

٢٠ مَا رَنَّحَتْ عَذَبَاتِ الْبَانِ رِيحُ صَبَا

مَا رَ نَّ نَ حَتْ عَ ذَ بَا تِلْ بَا نِ رِ يْ حُ صَ بَا

وَاَطْرَبَ الْعِيْسَ حَادِی الْعِيْسِ بِالنَّغَمِ

وَ اَطْ رَبَلْ عِیْ سَ حَا دِلْ عِیْ سِ بِنّ نَ غَ مِیْ

★ فَاغْفِرْ لِنَاشِدِهَا وَاغْفِرْ لِقَارِئِهَا

فَغْ فِرْ لِ نَا شِ دِ هَا وَ غْ فِرْ لِ قَا رِ ءِ هَا

سَاَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ

سَا اَلْ تُ كَلْ خَیْ رَ يَا ذَلْ جُوْ دِ وَلْ كَ رَمِیْ

ختم قصیدہ کے بعد یہ پڑھے

ثُمَّ الرِّضٰی عَنْ اَبِیْ بَکْرٍ وَّعَنْ عُمَرَ   وَعَنْ عَلِیٍّ وَّعَنْ عُثْمَانَ ذِی الْکَرَمِ
وَالْاٰلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِیْنَ لَهُمْ   اَهْلِ التُّقٰی وَالنُّقٰی وَالْحِلْمِ وَالْحِکَمِ
یَارَبِّ بِالْمُصْطَفٰی بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا   وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضٰی یَا بَارِئَ النَّسَمِ
یَارَبِّ جَمْعًا طَلَبْنَا مِنْكَ مَغْفِرَةً   وَحُسْنَ خَاتِمَةٍ یَا مُبْدِئَ النِّعَمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَوَسَّلُ بِقَرَآءَةِ هٰذِهِ الْقَصِیْدَةِ الْمُبَارَکَةِ اِلَیْكَ اَنْ تُعْطِیَنِیْ خَیْرَ الدَّارَیْنِ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔ بعد ازاں تین بار یہ درود شریف پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَاَزْوَاجِہٖ اُمَّھَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَذُرِّیَّتِہٖ وَاَھْلِ بَیْتِہٖ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی سَیِّدِنَا اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ط پھر ہاتھ اٹھا کر گیارہ بار اَلْمُسْتَغَاثُ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ وَالْمُسْتَعَانُ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ کہے۔ اور تین بار یہ دو آیتیں پڑھ کر دعا مانگے۔

لَقَدْ جَآءَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ ط عَلَیْہِ تَوَکَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ۝

۱؎ محل اجابت ہے، اس بیت کو تین بار پڑھے بعد ازاں یوں دعا مانگے، اَللّٰھُمَّ یَا مَنْ اِذَا سُئِلَ اَعْطٰی وَاِذَا دُعِیَ اَجَابَ اَسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَظِیْمِ الْاَعْظَمِ اَنْ یُّقْضٰی حَاجَتِیْ۔ رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّفِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۲؎ محل اجابت ہے اس بیت کو کھڑے ہو کر تین بار پڑھے اور دس بار درود بھیجے پھر سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالے سے اپنی حاجب طلب کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مستجاب ہو۔

۳؎ محل اجابت ہے تین بار پڑھے پھر گیارہ بار کہے اَلْمُسْتَغَاثُ یَا رَسُوْلَ اللّٰہ بعد ازاں یوں دعا مانگے: اَللّٰھُمَّ مَا کَانَ لِیْ خَیْرٌ فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَایَ فَافْتَحْ اَبْوَابَہٗ وَیَسِّرْ عَلَیَّ اَسْبَابَہٗ وَمَا کَانَ شَرًّا فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَایَ فَاغْلِقْ اَبْوَابَہٗ وَعَسِّرْ عَلَیَّ اَسْبَابَہٗ فَاِنَّکَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ۝

۴؎ محل اجابت ہے تین بار پڑھے پھر یہ درود خمسہ پڑھے اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْہِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی اَنْ یُّصَلّٰی عَلَیْہِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا یَنْبَغِی الصَّلٰوۃُ عَلَیْہِ وَصَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا اَمَرْتَنَا بِالصَّلٰوۃِ عَلَیْہِ۔ بعد ازاں ۳ بار یہ بیت پڑھے:

محمدِ عربی کابروئے ہر دو سراست   کسے کہ خاک درش نیست خاک بر سراو

۵ے محل اجابت ہے تین بار پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا مانگے اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنِیْ مَحْبُوْبًا دَائِمًا فِیْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَبَلِّغْنِیْ وَبَشِّرْنِیْ فِیْ عُمُرِیْ اِلٰی مِائَةٍ وَعِشْرِیْنَ سَنَةً مِنْ غَیْرِ ضُعْفٍ وَعِلَّةٍ وَفَقْرٍ وَّفَاقَةٍ فَاللّٰهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ۝

۶ے محل اجابت ہے تین بار پڑھے بعد ازاں درود خمسہ اور ۳ بار بیت مذکور فارسی پڑھے۔

۷ے محل اجابت ہے ۳ بار پڑھے۔

۸ے محل اجابت ہے ۳ بار پڑھے بعد ازاں یہ دعا اور آیۃ الکرسی پڑھے یَاحَافِظُ یَاحَافِظَ الذِّكْرِ اِحْفَظْنَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ الذِّكْرَ فَاِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ اَللّٰھُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اِحْفَظْنَا مِنْ هٰذَا السُّلْطَانِ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَعْوَانِهٖ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُكَ ۝

۹ے محل اجابت ہے تین بار پڑھے، ۱۰ے محل اجابت ہے تین بار پڑھے،

۱۱ے محل اجابت ہے تین بار پڑھے۔ پھر گیارہ بار کہے۔ اَلْمُسْتَغَاثُ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ

۱۲ے محل اجابت ہے تین بار پڑھے اور یہ دعا مانگے۔ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِزْقًا وَاسِعًا طَیِّبًا مُّبَارَكًا مِّنْ غَیْرِ كَدٍّ وَّعَمَلًا مَّقْبُوْلًا مِّنْ غَیْرِ رَدٍّ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فَضْحِ الْفَقْرِ وَالدَّیْنِ ۝ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَزِیْزِ الْمُقَدَّسِ الْمُبَارَكِ الْمَیْمُوْنِ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْ تَغْفِرَلِیْ ذُنُوْبِیْ كُلَّهَا وَتَقْضِیَ حَاجَتِیْ وَتَنْصُرَ عَلٰٓی اَعْدَائِیْ وَتَفْتَحَ لِیْ اَبْوَابَ خَیْرِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالدَّوْلَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالصِّحَّةِ وَالْعِزَّةِ وَالنِّعْمَةِ وَالْفُتُوْحِ وَالْكَسْبِ وَالْجَنَّةِ وَتَعْصِمَنِیْ مِنْ كُلِّ هَمٍّ وَّغَمٍّ وَّحُزْنٍ وَّ اَلَمٍ وَّمَرَضٍ وَّخَوْفٍ وَّجُوْعٍ وَّ تَمْنَعَ عَنِّیْ كُلَّ حَاسِدٍ وَّظَالِمٍ وَّنَمَّامٍ وَّغَمَّازٍ وَّجَبَّارٍ وَّ قَهَّارٍ وَّعَاهَةٍ وَّاٰفَةٍ وَّحَاجَةٍ وَّ

بَلَاءٍ وَّوَبَآءٍ وَجَمِيعِ مِحْنَةٍ وَّعِلَّةٍ وَّشِدَّةٍ وَّبَلِيَّةٍ صُورِيَّةٍ وَّمَعْنَوِيَّةٍ
يَا سُبُّوحُ يَا قُدُّوسُ يَا رَبَّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوحِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِينَ

زمانہ قدیم کے ایک ایرانی پہلوان کا نام ہے مگر یہاں اس سے عام زور اور دلاور مراد ہے۔

[۱۳] [۱۴] [۱۵] محلِ اجابت ہے تین بار پڑھے۔

[۱۶] محل اجابت ہے تین بار پڑھے۔

[۱۷] محل اجابت ہے تین بار پڑھے بعدازاں گیارہ بار اَلْمُسْتَغَاثُ یَارَسُوْلَ اللّٰہِ کہے۔

[۱۸] محلِ اجابت ہے تین بار پڑھے بعدازاں یہ دعا مانگے اَللّٰهُمَّ احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاكْنُفْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا وَعَنْ اَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا وَعَنْ فَوْقِ رُءُوسِنَا وَمِنْ تَحْتِ اَقْدَامِنَا حِفْظًا عَامًّا مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِي وَالْاٰفَاتِ وَالْبَلِيَّاتِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِينَ ۝ [۱۹] محلِ اجابت ہے تین بار پڑھے بعدازاں یہ دعا مانگے اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحَيَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَيَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي حَقِيرًا وَفِي اَعْيُنِ النَّاسِ وَقِيرًا كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝

[۲۰] محلِ اجابت ہے تین بار پڑھے بعدازاں یہ دعا مانگے اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ ذِهَابِ الدَّوْلَةِ وَتَغْيِيرِ النِّعْمَةِ وَتَهْوِيلِ الْعَاقِبَةِ وَغَلَبَةِ الشَّقَاوَةِ وَبُعْدِ السَّعَادَةِ وَاَسْئَلُكَ الْاَمْنَ وَالْاَمَانَ وَالْاِيمَانَ وَالْعَفْوَ وَالْمُعَافَاتَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِينَ

سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قصیدۂ نعتیہ

کے پہلے پانچ اشعار

●

یا سیِّدَ السّاداتِ جئتُکَ قاصِدًا ‏ ‏ ‏ ارجُو رِضاکَ و احتمی بِحِماکَ

اے سرداروں کے سردار میں خاص آپ ہی کا قصد کر کے حاضر ‏ ‏ ‏ ہُوا ہوں۔ آپکی خوشنودی کا طالب اور آپ کی حمایت کا اُمیدوار

واللہِ یا خیرَ الخلائقِ اِنَّ لِی ‏ ‏ ‏ قلبًا مشوقًا لا یرُومُ سِواکَ

اے بہترین مخلوق! خدا کی قسم میرا قلب ‏ ‏ ‏ آپ ہی کا شیفتہ ہے اور آپکے سوا کسی کا ارادہ نہیں رکھتا

وبِحقِّ جاھِکَ اِنّنی بِکَ مُغرمٌ ‏ ‏ ‏ واللہُ یعلمُ اِنّنی اھواکَ

آپکی عزّت کی قسم میں آپ کا فریفتہ ہوں ‏ ‏ ‏ اور خدا جانتا ہے کہ میں آپ ہی سے پیار کرتا ہوں

اَنتَ الّذی لولاکَ ما خُلِقَ امرُءٌ ‏ ‏ ‏ کلّا ولا خُلِقَ الورٰی لولاکَ

آپ وُہ ہیں کہ اگر نہ ہوتے تو کوئی شخص نہ پیدا کیا جاتا ‏ ‏ ‏ بلکہ اگر آپ نہ ہوتے تو کُل کائنات ہی نہ ہوتی

اَنتَ الّذی مِن نُورِکَ البدرُ اکتسٰی ‏ ‏ ‏ والشّمسُ مُشرِقۃٌ بِنُورِ بہاکَ

آپ وُہ ہیں کہ آپ کے نُور سے چاند نے نُور حاصل کیا ‏ ‏ ‏ اور سُورج روشن ہے آپ ہی کے جمال سے

●



روضہ مبارک حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ